



سٹی آف برامپٹن کے تفریحی مراکز کے لیے ویکسین لگوانے کے ثبوت کے بارے میں اپ ڈیٹ

برامپٹن، آن (19 اکتوبر 2021) – یکم نومبر سے پیل پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات کے مطابق 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام وزیٹرز کے لیے ویکسین لگوانے کا ثبوت دکھانا لازمی ہو گا۔

اس کا اطلاق تفریحی مراکز میں موجود تمام شرکاء اور تماشائیوں پر بھی ہو گا، جن میں نوجوان، کوچز، انسٹرکٹرز، نگہداشت کنندگان، رضاکاران اور گیم کے اہلکار شامل ہیں۔ یہ اپ ڈیٹ دیگر میونسپلٹیوں کے مطابق کی جا رہی ہے اور اس سے پیل کی فعال بوٹھ اسپورٹس کمیونٹی کے تحفظ میں مدد ملے گی۔

ویکسین لگوانے کے طریقوں کا قابل قبول ثبوت

برامپٹن ریکریٹیشن میں ذاتی شناخت کی ایک علیحدہ دستاویز کے علاوہ، ویکسین لگوانے کے درج ذیل طریقوں کے ثبوت قابل قبول ہوں گے۔

1. ویکسین کی مدافعت کے ثبوت کی رسید: یہ صوبے کی آن لائن [بروونیشل بکنگ پورٹل](#) سے یا پروونیشل ویکسین بکنگ لائن کو 1-833-943-3900 پر ٹیلیفون کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

2. اونٹاریو کی جانب سے سرکاری کیو آر کوڈ کے ساتھ ویکسین کا اضافہ شدہ ڈیجیٹل رسید سرٹیفکیٹ: یہ [بروونیشل بکنگ پورٹل](#) سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات [یہاں](#) سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ عملہ جلد از جلد اسکریننگ کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے آپریشنل ضروریات کا جائزہ لینا جاری رکھے گا۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی سرگرمی کے لیے جلدی پہنچنے کا منصوبہ بنائیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ضروری جانچ پڑتال کے لیے مناسب وقت دستیاب ہو۔ ہم اس کڑے وقت کے دوران آپ کے صبر کی تعریف کرتے ہیں۔

استثنیٰ

وہ افراد جو کسی طبی مجبوری کی وجہ سے ویکسین نہیں لگوا سکتے انہیں ڈاکٹر کے نوٹ کے ساتھ داخلے کی اجازت ہو گی جس میں واضح طور پر کووڈ-19 ویکسینیشن سے چھوٹ کی نشاندہی کی گئی ہو۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ کووڈ-19 منفی ٹیسٹ کے ثبوت کو مکمل ویکسینیشن کے ثبوت کے متبادل کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔

ویکسین لگوانیں

اپنے آپ کو اور اپنی کمیونٹی کو محفوظ بنائیں۔ ویکسین لگوانے، بشمول اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ریجن آف پیل کی ویکسینیشن سائٹیٹ [یہاں](#) پر ملاحظہ کریں۔

عمومی استفسارات کے لیے، براہ کرم recreation@brampton.ca پر ایک ای میل بھیجیں یا سٹی آف برامپٹن کے اندر سے 311 پر کال کریں (یا باہر سے 905.874.2000 پر)۔

سٹی کی جانب سے کووڈ-19 کے خلاف کارروائی کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔



BRAMPTON

Service and Information Update

پرابجوت کینتھ
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca